

برائے فوری اجراء

برامپٹن ٹرانزٹ پریسٹو (PRESTO) بالغان کے کرایوں میں 12 مئی سے تبدیلیاں کی جا رہی ہیں

بالغان کے کرایوں میں تبدیلی، سروس میں بہتری اور توسیع لانے میں مددگار ثابت ہو گی۔

برامپٹن، آن (12 اپریل 2019) - کونسل نے برامپٹن ٹرانزٹ کی ایک سفارش کی منظوری دے دی ہے جس کے مطابق 12 مئی سے پریسٹو بالغان کے کرایوں میں تبدیلی لائی جا سکے گی۔

تاہم، نقد کرایہ، دیگر تمام پریسٹو زمرہ جات (بچے، نوجوان اور معمر افراد) اور گو (GO) مشترکہ کرایہ اس تبدیلی سے متاثر نہیں ہوں گے۔

پریسٹو کے بالغان کے کرایوں پر درج ذیل تبدیلیاں لاگو ہوں گی۔

2019 مئی 12	موجودہ	بالغان
\$3.10	\$3.00	پریسٹو ای پرس (فی سفر)
\$34.00	\$33.00	پریسٹو ہفتہ وار پاس
\$128.00	\$124.00	پریسٹو ماہوار پاس

کرایوں میں کی جانے والی اس تبدیلی سے 2019 کے دوران حاصل ہونے والی آمدن کا تخمینہ \$1.1 ملین لگایا گیا ہے اور اس سے برامپٹن ٹرانزٹ اپنی مختلف سروسز میں بہتری اور توسیع کا عمل آگے بڑھا سکے گا، بشمول:

- 2019 میں اپنی 60 فٹ لمبی بسوں میں پانچ کا اضافہ اور 40 فٹ لمبی روایتی بسوں کی تعداد میں سات کا اضافہ کرنا۔
- اس سال سروس کے اوقات کار میں 81,000 گھنٹوں کا اضافہ کرنا۔

برامپٹن کے بزرگ شہریوں کے لیے کرایوں میں کمی جاری رہے گی۔ برامپٹن ٹرانزٹ اس سال کے اختتام تک 2020 کے اوائل میں \$15 ماہانہ سینئر پاس کا آغاز کرنے کے منصوبے پر بھی کام کر رہا ہے۔

برامپٹن ٹرانزٹ کے متعلق مزید معلومات کے لیے، www.bramptontransit.com ملاحظہ فرمائیں

اقتباس

"ایک محفوظ اور قابل بھروسہ ٹرانزٹ سروس فراہم کرنا ہماری ترجیح میں شامل ہے۔ ہماری سواریوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے صارفین کو بہتر سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنے بیڑے میں مزید بسیں شامل کریں اور موجودہ روٹس پر بسوں کی تعداد میں بھی اضافہ کریں۔ کرایوں میں اس اضافہ کی مدد سے ہم اپنی سواریوں کو ان کے روزمرہ سفر میں بہتر خدمات فراہم کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔"

- ایلکس ملوچیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ

30--

ہمیں ٹویٹر، فیس بک، اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca